

6 ماہ سے 3 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے CoronaVac ویکسین کے استعمال پر ضمنی نوٹ*

4 اگست 2022 سے، 6 ماہ سے 3 سال سے کم عمر کے بچے CoronaVac (Sinovac) ویکسین حاصل کر سکتے ہیں۔

COVID-19 انفیکشن کی عالمی وبا کے پھیلنے ساتھ، بچوں کو COVID-19 بیماری سے بچانے کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے تاکہ سنگین بیماری اور موت کی شرح کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکے۔

محکمہ صحت کے مرکز برائے تحفظ صحت (CHP) کے تحت ویکسین کے ذریعہ بچاؤ کے قابل بیماریوں سے متعلق سائنسی کمیٹی اور ابھرتی ہوئی اور جانوروں کے ذریعہ پھیلنے والی بیماریوں کی سائنسی کمیٹی (JSC)، جس میں چیف ایگزیکٹو کے ماہر مشاورتی پینل (EAP) نے شمولیت اختیار کی، ابتدائی تجربہ کو نوٹ کیا کہ چھ ماہ سے کم عمر کے بچوں میں CoronaVac (Sinovac) ویکسین کی دو خوراکیوں کے آزمائشی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویکسین قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور اس میں کوئی نئی حفاظتی خدشات نہیں تھے۔ ماہرین نے چھ ماہ سے 3 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ویکسینیشن کے انتظامات پر غور کیا جو یہ ہیں:

خوراک کی تعداد: تین خوراکیں استعمال کی جا سکتی ہیں#

خوراک: ہر ویکسینیشن کی خوراک وہی ہے جو بڑے بچوں اور بالغوں میں ہوتی ہے۔

وقفہ: پہلی دو خوراکیوں کے درمیان وقفہ کم از کم 28 دن کا ہونا چاہیے اور تیسری خوراک دوسری خوراک کے کم از کم 90 دن بعد دی جائے۔

کمزور قوت مدافعت کے شکار بچوں کے لیے پہلی دو خوراکیوں کے درمیان وقفہ کم از کم 28 دن ہے، اور تیسری خوراک دوسری خوراک کے 28 دن بعد دی جائے۔

صحت کی دیکھ بھال کرنے والے افراد مناسب طریقے سے بچوں کے لیے بازو یا ران پر ویکسینیشن کا انتظام کریں گے۔

*6 ماہ اور 3 سال سے کم عمر کے بچوں پر CoronaVac (Sinovac) ویکسین کا استعمال بیماری کی روک تھام اور کنٹرول (ٹیکوں کا استعمال) ریگولیشن (Cap. 599K) کے تحت مجاز CoronaVac کے منظور شدہ فہرست میں درج نہیں ہے۔ اسے بیماری کی روک تھام اور کنٹرول (ٹیکوں کے استعمال) ریگولیشن (Cap. 599K) کے تحت حکومتی پروگرام میں لیبل ہٹا کر استعمال کی اجازت ہے، حکومت کی طرف سے مقرر ماہرین کے پینل (وں)/کمیٹی (یوں) کے مشورے کو مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ اور متوقع وبائی صورتحال کے ساتھ ساتھ دستیاب متعلقہ افادیت اور حفاظتی معلومات کا جائزہ لیا جائے گا۔ وہ شخص جو ویکسین حاصل کرنے والے بچوں کو ویکسین تجویز کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے یا اس کے انتظام کا ذمہ دار ہے وہ حکومتی پروگرام میں حکومت کی ہدایت کے مطابق کام کرتا ہے۔

#ماضی میں COVID-19 انفیکشن کے شکار ہونے والے بچوں کے لیے براہ کرم "ماضی میں COVID-19 انفیکشن کے شکار ہونے والے افراد کے لیے COVID-19 ویکسینیشن سے متعلق فیکٹ شیٹ" دیکھیں۔

ترجمہ شدہ ورژن صرف حوالہ کے لیے ہے۔ اجراء کی تاریخ: 4 اگست 2022

بالفرض ترجمہ شدہ نسخہ اور انگریزی نسخہ میں تفاوت پایا گیا تو، انگریزی نسخہ کو فوقیت دی جائے گی۔

مزید معلومات کے لیے، براہ مہربانی ملاحظہ کریں www.covidvaccine.gov.hk۔

Translated version is for reference only. Version date: 4 August 2022

In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk

